

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن نے پکل بال کے سات نئے کورٹ کھول دیے ہیں

برامپٹن، آن (27 جون 2019) – پکل بال کینیڈا میں تیزی سے فروغ پانے والے کھیلوں میں سر فہرست ہے اور اب برامپٹن میں اس کو اپنا گھر مل گیا ہے! سٹی آف برامپٹن نے عوامی استعمال کے لیے دو مقامات پر سات عدد پکل کورٹس باضابطہ طور پر کھول دیے ہیں۔

### 1. فلاور سٹی کمیونٹی کیمپس | 8950 میک لافلن روڈ

پیر تا جمعہ صبح 9 تا شام 5 بجے تک، سٹی کا عملہ لیکروز باکس میں چار عدد پکل بال کورٹس کو ترتیب دے گا۔ اوقات کار کے بعد، کھلاڑی اپنے ذاتی پورٹیبیل نیٹ لا کر پہلے آئیے پہلے پائے کی بنیاد پر کھیل سکتے ہیں۔

### 2. سینٹینیل پارک | 53 سنٹر اسٹریٹ ساؤتھ

ٹینس کے سیزن (مئی تا اکتوبر) کے دوران تین کورٹس دستیاب ہوتی ہیں جن میں پہلے آئیے پہلے پائے کی بنیاد پر کھیلا جا سکتا ہے۔ کھلاڑیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مصروف اوقات کے دوران وہ ادھے گھنٹے کے بعد کورٹس چھوڑ دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی کھیلنے کا موقع ملے۔

سٹی آف برامپٹن کئی تفریحی مراکز میں پورا سال ان ڈور ڈراپ ان پکل بال کی سہولت کی پیشکش بھی کرتا ہے۔ ڈراپ ان کے اوقات اور مقامات آن لائن طور پر [ڈراپ ان فلٹر](#) کے ذریعے دستیاب ہیں۔

ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ اپنا روٹ تلاش کرنے کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں۔

### اقتباس

"برامپٹن میں ایک متنوع کمیونٹی رہتی ہے جو کھیلوں کے شوقین خواتین و حضرات سے بھرپور ہے اور مجھے سب لوگوں کے استعمال کے لیے پکل بال کورٹس کا آغاز کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ مزید ایک ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنے شہر کو صحت مندانہ اور محفوظ رکھ سکتے ہیں اور یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ رہائشیوں کے پاس اڈٹ ڈور کھیل اور لطف اندوز ہونے کے مواقع موجود ہوں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)